



إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ



کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے (جو) کتاب محفوظ میں  
(لکھا) ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں

## Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

### سورة الواقعة

Urdu Translation اردو ترجمہ

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1)

جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے

لَيْسَ لَوْتَعَبِهَا كَاذِبَةٌ (2)

اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ (3)

کسی کو پست کرے کسی کو بلند

إِذَا مَرَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا (4)

جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5)

اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں

فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6)

پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7)

اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8)

تو داہنے ہاتھ والے (سبحان اللہ) داہنے ہاتھ والے کیا (بھی چین) میں ہیں

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9)

اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) بائیں ہاتھ والے کیا (گرفتار عذاب) ہیں

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10)

اور جو آگے بڑھنے والے ہیں (انکا کیا کہنا) وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11)

وہی (خدا کے) مقرب ہیں

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12)

نعمت کی بہشتوں میں

ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13)

وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے

وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14)

اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15)

(لعل ویا قوت وغیرہ سے) جڑے ہوئے تختوں پر

مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقَابِلِينَ (16)

آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17)

نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ (ایک ہی حالت میں) رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18)

یعنی آنجورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر

لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفُونَ (19)

اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ انکی عقلیں زائل ہوں گی

وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20)

اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں

وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21)

اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے

وَحُورٌ عِينٌ (22)

اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23)

جیسے (حفاظت سے) تہہ کئے ہوئے (آبدار) موتی

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24)

یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25)

وہاں نہ بے ہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26)

ہاں ان کا کلام سلام سلام (ہوگا)

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27)

اور داہنے ہاتھ والے (سبحان اللہ) داہنے ہاتھ والے کیا (ہی عیش میں) ہیں

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (28)

(یعنی) بے خار کی بیڑیوں میں

وَطَلْحٍ مُنْقُودٍ (29)

اور تہہ بہ تہہ کیلوں

وَضِلِّ مَمْدُودٍ (30)

اور لمبے لمبے سایوں

وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ (31)

اور پانی کے جھرنوں

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32)

اور میوہ ہائے کثیرہ (کے باغوں) میں

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا لَمْتُوعَةٍ (33)

جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے

وَقُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ (34)

اور اونچے اونچے فرشوں میں

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35)

ہم نے ان (حوروں) کو پیدا کیا

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36)

تو ان کو کنواریاں بنایا

عُرُبًا أَتْرَابًا (37)

(اور شوہروں کی) پیاریاں اور ہم عمر

لِلْأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38)

داہنے ہاتھ والوں کے لئے

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ (39)

(یہ) بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں

وَتِلْكَ مِنَ الْآخِرِينَ (40)

اور بہت سے پچھلوں میں سے

وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ (41)

اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) بائیں ہاتھ والے کیا (ہی عذاب میں) ہیں

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42)

(یعنی دوزخ کی) لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں

وَضِلٌّ مِنْ يُحْمُومٍ (43)

اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں

لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44)

(جو) نہ ٹھنڈا (ہے) اور نہ خوشنما

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45)

یہ لوگ اس سے پہلے عیشِ نعیم میں پڑے ہوئے تھے

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ (46)

اور گناہِ عظیم پر اڑے ہوئے تھے

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47)

اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے

اور ہڈیاں (ہی ہڈیاں رہ گئے) تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہو گا

أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48)

اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49)

کہہ دو کہ بیشک پہلے اور پچھلے

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (50)

(سب) ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کئے جائیں گے

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتُمْ أَهْلُهَا الصَّالُّونَ الْمُكذَّبُونَ (51)

پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو!

لَا تَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُكُومٍ (52)

تھوہر کے درخت کھاؤ گے

فَمَا لُبُّونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53)

پھر اسی سے پیٹ بھرو گے

فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54)

پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے

فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ (55)

اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56)

جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57)

ہم نے تم کو (پہلی بار بھی تو) پیدا کیا ہے، تو تم (دوبارہ اٹھنے کو) کیوں سچ نہیں سمجھتے؟

أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُفِّرُونَ (58)

دیکھو تو کہ جس (نطفے) کو تم (عورتوں کے رحم میں) ڈالتے ہو

أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59)

کیا تم اس (سے انسان) کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟

نَحْنُ قَدْ زَرَعْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60)

ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61)

کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور  
تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62)

اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63)

بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بو تے ہو

أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64)

تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں؟

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65)

اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ

إِنَّا لَمُعْرِضُونَ (66)

(کہہ جائے) ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے



بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67)

بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68)

بھلا دیکھو تو جو پانی تم پیتے ہو

أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (69)

کیا تم نے اسکو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70)

اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71)

بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو

أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ (72)

کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (73)

ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)

تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75)

مجھے تاروں کی منزلوں کی قسم

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76)

اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77)

کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (78)

(جو) کتاب محفوظ میں (لکھا) ہوا ہے

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79)

اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (80)

پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81)

کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ (82)

اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟

فَلَوْلَا إِذْ أَبْلَغْتَ الْخُلُقُومَ (83)

بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے

وَأَنْتُمْ حِينئِدٍ تَنْظُرُونَ (84)

اور تم اس وقت کی (حالت کو) دیکھا کرتے ہو

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85)

اور ہم اس (مرنے والے) سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86)

پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87)

تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88)

پھر اگر وہ (خدا کے) مقربوں میں سے ہے

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٍ (89)

تو (اس کے لئے) آرام اور خوشبو دار پھول اور نعمت کے باغ ہیں

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90)

اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے

فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91)

تو (کہا جائے گا کہ) تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92)

اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے

فَأُنزِلُ مِنْ حَمِيمٍ (93)

تو (اسکے لئے) کھولتے پانی کی ضیافت ہے

وَتَصَلِيَةُ جَحِيمٍ (94)

اور جہنم میں داخل کیا جانا

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95)

یہ (داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی) حق الیقین ہے

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96)

تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو



© Copy Rights:  
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana  
Lahore, Pakistan  
www.quran4u.com